



سوال

(426) سرکاری چیزوں کا ذاتی کاموں کے لیے استعمال

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک سرکاری ملازم کے لیے دفتر کی بعض چھوٹی چھوٹی اشیاء قلم، الفاظہ اور ہیمانہ وغیرہ ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیراً

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سرکاری دفتروں کی چیزوں کا ذاتی کاموں کے لیے استعمال حرام ہے کیونکہ یہ اس امانت و دیانت کے خلاف ہے جس کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے البتہ کسی ایسی چیز کو استعمال کیا جاسکتا ہے جس کے استعمال سے حکومت کو کوئی نقصان نہ ہو مثلاً ہیمانہ وغیرہ کا استعمال کیونکہ اس کے استعمال سے نہ ہیمانہ پر ہی کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کے استعمال سے حکومت ہی کو کوئی نقصان ہوتا ہے لیکن سرکاری دفتروں کے قلم، کاغذات، لٹائپ رائیٹر اور فوٹو سٹیٹ مشین وغیرہ کا ذاتی کاموں کے لیے استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں صرف سرکاری استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 330

محدث فتویٰ